

برائے فوری اجراء

برامپٹن اکنامک ڈیولپمنٹ آفس، شہر کو سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش مقام بنانے کی کاوشوں کو جاری رکھے ہوئے ہے

برامپٹن، آن (22 اپریل 2022) – برامپٹن اکنامک ڈیولپمنٹ آفس برامپٹن کو جدت طرازی اور سرمایہ کاری کے لیے ایک اہم مقام کے طور پر پہچانے جانے، مقامی ٹیلنٹ کو فروغ دینے اور کاروباری افراد کو مدد فراہم کرنے کے علاوہ شہر کو کووڈ-19 کی وبائی مرض کے اثرات سے نکالتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن رکھنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔

کونسل کی ترجیحات کی اس مدت کی بنیاد کے دوران شہر میں مثبت تبدیلیوں کے اقدامات جاری ہیں اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ بنیادی تعلقات کو استوار اور قائم رکھنے والا ہمارا عملہ کامیاب کمیونٹیز کی تکمیل، اقتصادی امکانات کو سامنے لانے اور انوویشن کوریڈور پر برامپٹن کی منفرد پوزیشن کو تقویت دینے میں مسلسل مدد فراہم کر رہا ہے۔

سرخیوں میں شامل ہیں:

#### مقامی کاروباروں کی اعانت

- مئی 2020 میں، سٹی نے اپنی "سپورٹ لوکل" مہم کا آغاز کیا تھا تاکہ رہائشیوں کو مقامی کاروباروں کی اعانت کرنے کے لیے ان سے خریداری کرنے، کھانا کھانے اور تحائف وغیرہ خریدنے کی ترغیب دی جائے۔
- سپورٹ لوکل مہم شہر کی اقتصادی بحالی کی حکمت عملی کا ایک اہم اقدام تھا، اور یہ دراصل کووڈ-19 کی وبائی مرض سے متاثر ہونے والے ہمارے کاروباروں کو معاونت فراہم کرنے اور شہر کی معیشت کو دوبارہ بحال کرنے کا ایک منصوبہ تھا۔

#### انوویشن ڈسٹرکٹ:

- سٹی آف برامپٹن ایک پُر جدت اور انٹرپرائیور شپ کے ماحولیاتی نظام: یعنی برامپٹن انوویشن ڈسٹرکٹ کی تعمیر کے ذریعے اپنے ڈاؤن ٹاؤن کے معاشی امکانات کے فروغ اور انہیں غیر مقفل کرنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔
- 2019 میں شروع ہونے والے معاہدوں کے ساتھ، سٹی نے اپنے انوویشن ڈسٹرکٹ میں تقریباً 20.5 ملین ڈالر کی رقم خرچ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، جس میں انوویشن ڈسٹرکٹ کے شراکت داروں کی جانب سے بھی تقریباً 55.2 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔
- 2019 سے 2021 تک، چھ نئے شراکت داروں نے انوویشن ڈسٹرکٹ میں اپنی موجودگی کو بھرپور طور پر ثابت کیا ہے۔ انوویشن ڈسٹرکٹ کے شراکت داروں میں برامپٹن انٹرپرائیور سنٹر، BHive برامپٹن، ریٹرن کی قیادت میں کام کرنے والا وینچر زون، ایلٹیجیوڈ ایکسپریس، فاؤنڈر انسٹی ٹیوٹ، الگومہ بیونیورسٹی اور راجرز سائبر سیکورٹی کیٹالسٹ پیڈ کوارٹر اور ایکسپریس شامل ہیں۔ انوویشن ڈسٹرکٹ کی تعمیر میں شیرین ایچ، برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ اور ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن BIA بھی کلیدی شراکت دار ہیں۔
- مارچ میں سٹی آف برامپٹن نے اپنی انوویشن ڈسٹرکٹ ویڈیو پر اکنامک ڈیولپرز ایسوسی ایشن آف کینیڈا (EDAC) کی جانب سے مارکیٹنگ کینیڈا ایوارڈ جیتنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔

#### ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن

- سٹی 12 ماہ کے ویلکمنگ سٹریٹس پائلٹ پروگرام کے آغاز کے ساتھ اپنے ڈاؤن ٹاؤن کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس پروگرام کا مقصد ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں اپنے رہائشیوں کو ٹارگنڈ اسٹریٹ آؤٹ ریچ سروسز فراہم کرنا ہے، جس کا مقصد مقامی رہائشیوں اور کاروباری اداروں کی ضروریات کو پورا کرنا اور حفاظت کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرنا ہے۔
- 2022 میں، سٹی نے اپنا ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن پروجیکٹس سنٹر کا آغاز کیا تھا تاکہ شہر کے کاروباروں اور رہائشیوں کی مدد کی جا سکے اور ڈاؤن ٹاؤن کی رونقیں دوبارہ بحال کرنے کے لیے پروگراموں اور اقدامات کی فراہمی جاری رکھی جا سکے۔

برامپٹن انٹرپرائیور سنٹر:

- 2019 میں جارج اسٹریٹ پر برامپٹن انٹرپرائزیور سنٹر کی جانب سے کو-ورکنگ اسپیس کھولنے کے بعد سے، عملہ مقامی کاروباری افراد کی مدد کے لیے سر توڑ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 2000 نئی ملازمتیں پیدا ہوئی ہیں۔
- ٹیم نے اب تک 44,000 سے زیادہ سوالات کے جوابات دیے ہیں، چھوٹے کاروباروں کے لیے 5,299 مشاورتی نشستیں منعقد کی ہیں، 44,193 شرکاء کو 2,851 سیمینارز اور ایونٹس کے مواقع فراہم کیے ہیں، 102 نوجوانوں کو سمر کمپنی گرانٹ فنڈز جاری کیے ہیں جن کی کل مالیت \$306,000 بنتی ہے، اور 175 چھوٹے کاروباروں کو سٹارٹر کمپنی گرانٹ کی شکل میں \$731,000 کی فنڈنگ جاری کی گئی ہے۔
- 2021 میں، برامپٹن انٹرپرائزیور سنٹر نے برامپٹن میں چھوٹے تا درمیانے درجے کے کاروباروں کو کووڈ-19 کی ریپڈ اسکریننگ کٹس مفت فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی مینجمنٹ آفس کے ساتھ تعاون کیا ہے۔

### براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری:

- فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ (FDI) کے لیے کونسل سے منظور شدہ حکمت عملی کے ایک حصے کے طور پر، برامپٹن اکنامک ڈیولپمنٹ آفس نے 2019 میں [InvestBrampton](#) اور 'برامپٹن مینز بزنس ناؤ' کے لیے FDI کو راغب کرنے کی کوششوں کے لیے برانڈنگ اور مارکیٹنگ کا آغاز کیا۔
- میئر براؤن اور کونسل کے اراکین نے 10 سے زیادہ بین الاقوامی مشنوں کی قیادت کی ہے، جس کے نتیجے میں برامپٹن میں پانچ نئے کاروبار آئے ہیں اور کاروباروں کو برقرار رکھنے اور توسیعی دینے کے پانچ منصوبوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔
- سٹی آف برامپٹن نے BHive برامپٹن کا آغاز کیا ہے، جو برامپٹن کے انوویشن ڈسٹرکٹ میں بین الاقوامی کاروباری افراد کی آمد میں ایک نرم گوشے کا کردار ادا کرے گا۔ اپنے آغاز کے بعد سے اب تک، BHive میں 38 نئے کاروبار قبول کیے گئے ہیں۔

### کاروبار کی بحالی اور توسیع:

- برامپٹن اکنامک ڈیولپمنٹ آفس نے 2019 سے لے کر اب تک تقریباً 2,500 ملازمتیں پیدا کرنے اور انہیں برقرار رکھنے میں کاروباروں کی مدد کی ہے۔
- جو 2,500 ملازمتیں تخلیق اور برقرار رکھی گئی ہیں ان میں شہر میں ایمیزون کی موجودگی شامل نہیں ہے، جو کووڈ-19 کی وباء کے دوران بڑھی ہے۔ ایمیزون کے بنیادی اقدامات کے طور پر اب برامپٹن میں چھ سہولت گاہیں فعال ہیں، جن میں اس وقت تقریباً 8,000 افراد کام کر رہے ہیں۔
- مارچ میں، سٹی نے اعلان کیا کہ [MDA نے برامپٹن کو اپنے نئے مقصد سے بنائے گئے عالمی ہیڈ کوارٹر اور سنٹر آف ایکسیلینس فار سیپس روبوٹکس کے لیے کام کی جگہ کے طور پر منتخب کیا ہے](#)۔ یہ نئی جدید ترین سہولت گاہ، [Canadarm3](#) اور 700 سے زیادہ اعلیٰ ہنر مند ملازمین کا گھر ہو گی۔

سٹی کے اکنامک ڈیولپمنٹ کے نتائج کے بارے میں مزید معلومات ایک پریزیٹیشن کی شکل میں [یہاں](#) دیکھی جا سکتی ہے۔ برامپٹن اکنامک ڈیولپمنٹ آفس کے بارے میں مزید پڑھیں۔

### اقتباسات

"برامپٹن اس وقت ایک دلچسپ تبدیلی کے درمیان سے گزر رہا ہے اور کونسل کی اس مدت کے دوران، ہم نے اپنے شہر کو ایک جدت طراز اور تعلیم کے بڑے مرکز کے طور پر تیار کیا ہے، مستقبل کی ہنر مند ملازمتیں پیدا کی ہیں اور معروف عالمی کمپنیوں کو یہیں اپنے شہر میں برقرار رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی توسیع میں بھی مدد فراہم کی ہے۔ برامپٹن کا مطلب ہے کاروبار اور جب ہمارے کاروبار اور کاروباری افراد کامیاب ہوتے ہیں، تو اس سے ہماری پوری کمیونٹی کو فائدہ ہوتا ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"اب ہمیں کووڈ-19 کی وباء میں دو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس سے ہماری کاروباری برادری بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ لیکن برامپٹن کونسل اور ہماری اقتصادی ترقی کی بلند حوصلہ ٹیم ہمارے مقامی کاروباروں اور کاروباری افراد کے لیے ہر قدم پر ان کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ ہم برامپٹن کو سرمایہ کاری کے لیے ایک اہم مقام کے طور پر قائم کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنی اقتصادی بحالی کی حکمت عملی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے، اپنے شہر کو اس وبائی مرض کے اثرات سے آگے لے جا رہے ہیں۔"

- مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4؛ چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"کونسل کی ترجیحات کی اس مدت پر عمل درآمد کرتے ہوئے، ہم برامپٹن میں جاری مثبت تبدیلیوں کے اقدامات کی مدد سے کامیاب کمیونٹیز کی تکمیل، اپنے شہر کی اقتصادی صلاحیت کو سامنے لانے اور انوویشن کوریڈور پر برامپٹن کی منفرد پوزیشن کو تقویت دینے میں مسلسل مدد فراہم کر رہے ہیں۔ برامپٹن کونسل اور عملہ ہمارے طالب علموں، کاروباری افراد، کاروباروں اور پوری کمیونٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہمارے شہر کی معاشی صلاحیت کو جاری رکھنے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔"

- پال ویسیٹے، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن کا عملہ کونسل کی مدت کی ترجیحات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے: برامپٹن ایک مواقع کا شہر ہے اور ہماری کمیونٹی کی اقتصادی صلاحیت کو سامنے لانے کا عمل اس میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ہماری ٹیم نے برامپٹن کو سرمایہ کاری کے لیے ایک اہم مقام کے طور پر منوانے اور برامپٹن کو ایک تعلیمی اور اختراعی مرکز کے طور پر قائم کرنے کے لیے ناقابل یقین حد تک محنت سے کام کیا ہے اور ہماری اقتصادی بحالی کی حکمت عملی کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے شہر کو مزید آگے بڑھانے کا عمل جاری رکھے گی۔"

- پال مورین، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹویٹر](http://www.brampton.ca)، [فیس بک](http://www.brampton.ca) اور [انسٹاگرام](http://www.brampton.ca) پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)